



## سوال

(482) ازدواجی راز افشاء کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میری بیوی، ہمارے مابین ازدواجی رازدوسری عورتوں کو بتاتی ہے، کسی بار میں نے اسے منع کیا ہے لیکن وہ باز نہیں آتی، اس کے متعلق شرعی حکم واضح کریں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کچھ عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کی باتیں یا ازدواجی رازدوسری عورتوں کو بتاتی ہیں، یہ نازیبا حرکت حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی مابین الفاظ تعریف کی ہے: ”نیک فرمانبردار بیویاں خاندان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے نگہداشت رکھنے والی ہوتی ہیں۔“ [1]

سوال میں جو صورت حال بیان ہوئی ہے وہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں سے بدترین درجہ اس شخص کا ہوگا جو اپنی بیوی سے ملتا ہے اور وہ اس سے ملتی ہے اور پھر وہ اس کے راز افشاء کرتا ہے۔“ [2]

یہی حکم بیوی کا ہے، اسے چاہیے کہ اگر خاندان میں کوئی کوتاہی ہے تو اسے آگاہ کرے، دوسروں کو بتانا اس کی خیانت کرنا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

[1] النساء: ۳۴۔

[2] صحیح مسلم، النکاح: ۳۵۴۲۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



جلد 4- صفحہ نمبر: 427

محدث فتویٰ